

PROCEEDINGS OF THE DIRECTOR, S.C.E.R.T., TELANGANA, HYDERABAD

Present: B. Seshu Kumari

Rc.No.200/A/C&T/SCERT/TS/2019,

Dated: 11.02.2020

Sub:- School Education Department – SCERT, Telangana, Hyderabad – **Creating awareness of the Novel Corona Virus – Communicated – Reg.**

Ref:- 1. Govt. Memo No.1117/SE.Genl.I/2020, dt: 08.02.2020 of the Addl. Secretary to Government, Telangana, Hyderabad.
2. Lr.D.O.No.Secy (HFW)/MP/Corona virus), dt: 05.02.2020 of the Secretary, Dept. of Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India.

* * *

All the RJDSEs, DEOs and Principals of DIETs, CTEs and IASE in the State are invited to the reference cited above and are instructed to sensitize the students with simple public health measures in preventing spread of Novel Corona Virus disease as directed by the Dept. of Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India.

The Ministry vide its letter 2nd cited has informed that though much is not known about the disease dynamics, it is evident that there is human to human transmission. As of now, there is no drug or vaccine available to manage this disease. Hence, preventive measures become crucial to stop spread of this disease.

As few travel related cases (3) were reported in India, the National Health Mission, Govt. of India has instructed to create awareness among students about preventive interventions such as frequent hand wash, respiratory etiquettes (using handkerchief over mouth while coughing/ sneezing, use of tissue paper or using the sleeve of shirt covering upper arm, staying away from school/ college when sick, avoiding public gatherings etc.) will help in preventing/ reducing transmission of not only this disease, but also large number of other communicable diseases, notably flu like illness.

Therefore, all the RJDSEs, DEOs and Principals of DIETs, CTEs and IASE in the State are informed to take necessary action to sensitize the students (schools and colleges) to follow the simple public health measures as enclosed in the Information Pamphlet in preventing the spread of Novel Corona Virus and other communicable diseases.

Encl.: Information Pamphlet

To
All the RJDSEs in the State.
All the DEOs in the State.
All the Principals of DIETs, CTEs and IASE.

Copy submitted to
The Commissioner of School Education, Telangana.
The Special Chief Secretary to Govt., Education Department, Govt. of Telangana.

Seshu Kumari
Director, SCERT
11/2/2020



Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

کورونا وائرس انفکشن کے خطرے کو کم کیجئے


ان اہم احتیاطی تدابیر کو اپنایئے



صابن استعمال کرتے ہوئے
کثرت سے ہاتھ دھویئے



کھانسنے اور چھٹکنے کے دوران منہ اور ناک
کو رومال، ٹشو پیپر یا کہنی سے ڈھانکنے



اس فرد سے فاصلہ بنائے رکھئے جو
سردی، کھانسی اور بخار میں مبتلا ہے



اگر آپ کو کھانسی، بخار ہے یا سانس لینے میں
تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع ہوں

کورونا وائرس سے محفوظ رہئے

محفوظ رہئے!

چھین سے لوٹنے کے 28 دن کے اندر اگر آپ بخار،
کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں
تو فوراً محکمہ صحت و خاندانی بہبود کے ہیلپ لائن پر
رابطہ کیجئے۔

اگر آپ پچھلے 15 دنوں میں چین سے لوٹے ہیں یا
کسی ایسے فرد کے رابطہ میں رہ چکے ہیں جو کرونا
وائرس سے متاثر ہے، تو دیگر افراد سے اپنا رابطہ کم
کیجئے اور سونے کے لیے علاحدہ کمرے کا استعمال
کیجئے۔

اگر آپ 15 جنوری کے بعد اوہان، چین سے
لوٹے ہیں تو 2019-nCov کی جانچ کروائیئے۔
جانچ کے مراکز کے بارے میں معلومات حاصل
کرنے کے لیے محکمہ صحت و خاندانی بہبود کے ہیلپ
لائن پر رابطہ کیجئے۔



+91-11-23978046

or email at ncov2019@gmail.com



Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

کورونا وائرس انفکشن کے خطرے کو کم کیجئے ان اہم احتیاطی تدابیر کو اپنائیے



کھانسنے اور چھینکنے کے بعد



صابن استعمال
کرتے ہوئے
کثرت سے ہاتھ دھونا
نہ بھولیں



بیت الخلاء کے استعمال کے بعد



بیمار فرد کی دیکھ بھال سے
پہلے اور بعد اپنے ہاتھ دھویئے



پکوان سے پہلے اور بعد،
اور کھانے سے پہلے



اگر آپ کو کھانسی، بخار ہے یا سانس لینے میں
تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع ہوں

کورونا وائرس سے محفوظ رہئے

محفوظ رہئے!

چھین سے لوٹنے کے 28 دن کے اندر اگر آپ بخار،
کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں
تو فوراً محکمہ صحت و خاندانی بہبود کے ہیلپ لائن پر
رابطہ کیجئے۔

اگر آپ پچھلے 15 دنوں میں چین سے لوٹے ہیں یا
کسی ایسے فرد کے رابطہ میں رہ چکے ہیں جو کرونا
وائرس سے متاثر ہے، تو دیگر افراد سے اپنا رابطہ کم
کیجئے اور سونے کے لیے علاحدہ کمرے کا استعمال
کیجئے۔

اگر آپ 15 جنوری کے بعد اوہان، چین سے
لوٹے ہیں تو 2019-nCov کی جانچ کروائیے۔
جانچ کے مراکز کے بارے میں معلومات حاصل
کرنے کے لیے محکمہ صحت و خاندانی بہبود کے ہیلپ
لائن پر رابطہ کیجئے۔



+91-11-23978046

or email at ncov2019@gmail.com



Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

کورونا وائرس انفکشن کے خطرے کو کم کیجئے

ان اہم احتیاطی تدابیر کو اپنایئے



1 اگر آپ بخار اور کھانسی سے متاثر ہیں تو سفر سے گریز کیجئے



2 صابن استعمال کرتے ہوئے کثرت سے ہاتھ دھویئے



3 اپنے سفر کی تفصیلات کا ہیلت ورکر (ASHA / ANM) سے تبادلہ کیجئے



اگر آپ کو کھانسی، بخار ہے یا سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع ہوں

محفوظ رہئے! کورونا وائرس سے محفوظ رہئے

اگر آپ 15 جنوری کے بعد اوہان، چین سے لوٹے ہیں یا کسی ایسے فرد کے رابطہ میں رہ چکے ہیں جو کورونا وائرس سے متاثر ہے، تو دیگر افراد سے اپنا رابطہ کم کیجئے اور سونے کے لیے علاحدہ کمرے کا استعمال کیجئے۔

اگر آپ 15 جنوری کے بعد اوہان، چین سے لوٹے ہیں تو 2019-nCov کی جانچ کروائیئے۔ کسی ایسے فرد کے رابطہ میں رہ چکے ہیں جو کورونا وائرس سے متاثر ہے، تو دیگر افراد سے اپنا رابطہ کم کرنے کے لیے حکمہ صحت و خاندانی بہبود کے ہیلت لائین پر رابطہ کیجئے۔

24x7 +91-11-23978046

or email at ncov2019@gmail.com